

Consultations between Secretary (East) and Republic of Korea First Vice Foreign Minister

December 23, 2020

سکرٹری (مشرق) اور جمہوریہ کوریا کے پہلے نائب وزیر خارجہ کے مابین باہمی مشاورت

23 دسمبر، 2020

بھارتی وزارت میں سکرٹری (مشرق)، محترمہ ریوا گنگولی داس، اور جمہوریہ کوریا کے پہلے نائب وزیر خارجہ جناب چوئی جونگ کون نے 23 دسمبر، 2020 کو ڈیجیٹل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے باہمی مشاورت کا انعقاد کیا۔ اس مشاورت میں دوطرفہ تعاون سے متعلق امور اور باہمی دلچسپی کے بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت ہوئی، اور اس میں اعلیٰ سطحی دوطرفہ تبادلہ، دفاع اور سلامتی تعاون، کووڈ-19 رسپانس، کثیر الجہتی فورم میں کورڈینیشن کے امور شامل تھے۔

دونوں فریقین نے 2021 میں اعلیٰ سطح کے تبادلے کو مزید تقویت دینے، اور باہمی فائدہ مند تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا، جس میں دفاعی شعبوں سمیت اور بالخصوص دفاعی صنعت کے تعاون کو بڑھانا شامل ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے مابین ضروری ہوائی سفر کی سہولت فراہم کرنے سمیت کووڈ-19 کے تناظر میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر چوئی نے جمہوریہ کوریا جانے والے ہندوستانی شہریوں سمیت غیر ملکیوں کے سفری پابندیوں، مزید پروازوں کی تعداد پر پابندی اور ویزا کے زمرے میں مزید نرمی کے لئے جمہوریہ کوریا کے حکومت کی طرف سے زیر غور اقدامات پر روشنی ڈالی۔ دونوں فریقین نے ایئر بیل کے انتظامات کے لئے جاری مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔

نائب وزیر چوئی نے بین الاقوامی شمسی تحالف (آئی ایس اے) اور کولیشن فار ڈیزاسٹر ریزیلیئنٹ انفراسٹرکچر (سی ڈی آر آئی) جیسے اقدامات کے ذریعہ مشترکہ عالمی چیلنجز جیسے موسمیاتی تبدیلی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے نمٹنے کے لئے ہندوستان کی طرف سے ادا کردہ قائدانہ کردار کی تعریف کی، اور ان امور پر ہندوستان کے ساتھ کام جاری رکھنے کے لئے جمہوریہ کوریا کی چاہت کا عندیہ دیا۔

نئی دہلی

23 دسمبر، 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release